

## جمع مذکر سالم مضاف یاء متکلم مضاف إليه

Jama' Muzakkar Saalim Mudaaf to Ya Mutakallim

(My teachers) مُعَلِّمِي

(I saw my teachers.) رَأَيْتُ مُعَلِّمِي (میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو)

(These books are for my teachers.) هَذِهِ الْكُتُبُ لِمُعَلِّمِي (یہ کتابیں میرے اساتذہ کے لیے ہیں)

(My teachers) Nominative case. مُعَلِّمِي

~~مُعَلِّمُونَ + ي = مُعَلِّمُوِي~~ ← مُعَلِّمِي + ي ← مُعَلِّمِي

مُعَلِّمُونَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ - Noon of مُعَلِّمُونَ is dropped because of Izaafat.

واؤ اور یاء دو حرف علت جمع ہو گئے اور اول ان میں سے ساکن ہے پس واؤ کو یاء میں تبدیل کر دیا اور یاء کو یاء میں مدغم کر دیا و یاء آپس میں مل کر مشدد ہو گئیں اور جب دو ساکن یاء ملتی ہیں تو ان پر فتح آجاتا ہے۔  
 - یاء کی مطابقت کی وجہ سے یاء کے ما قبل کے ضمہ کو کسرة سے بدل دیا۔

-Wow and Ya two Herf Illah occur together and the first one (Wow) is Saakin. So it is changed into Ya and both are merged together. They are now Mushadaad. When two Ya are joined this way, they get a Fatha.

- In compatibility with Ya the Damma of the preceding letter (Meem) is changed to Kasrah.

- "مُعَلِّمِي" و کب اضافی کی تحلیل کرتے ہوئے ہم کہیں گے

Analysis: مُعَلِّمِي Mudaaf (مُعَلِّمُو) the sign of Rafa' is Wow Muqaddarah.

مُعَلِّمُو: مضاف مرفوع علامت رفعه واؤ المقدره رفع کی نشانی "واؤ المقدره"

رَأَيْتُ مُعَلِّمِي (میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو) منصوب حالت. (I saw my teachers.): رَأَيْتُ مُعَلِّمِي .

رَأَى + ت + مَعْلَمِينَ + ي

فعل ماضى + ت ضمير فاعل + مفعول به و هو مضاف + ياء متكلم مضاف إليه

مَعْلَمِينَ + ي ← مَعْلَمِي + ي ← مَعْلَمِي

اس مثال میں مضاف "مَعْلَمِينَ" جمع مذکر سالم منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے۔ -In this example Mudaaf مَعْلَمِينَ is Mansub (accusative).

مَعْلَمِينَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ -Noon of مَعْلَمِينَ is dropped because of Idaafat.

یہاں دو یاء جمع ہو گئی پہلی ساکن اور دوسری متحرک دونوں کا ادغام ہو گیا۔

- Two Ya occur together. The first being Saakin and second Mutahrik, both are merged together.

یاء متکلم سے ما قبل پہلے ہی کسرة ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی

- Kasrah is already there preceding Ya Mutakallim, so there won't be any change.

مَعْلَمِي: مفعول به و هو مضاف **علامت نصبه الياء** نصب کی نشانی "ياء" لفظی۔ -Analysis: مَعْلَمِي Mudaaf, sign of Nasab is "Ya" Lafzi.

هَذِهِ الْكُتُبُ لِمَعْلَمِي (یہ کتابیں میرے اساتذہ کے لیے ہیں) جرّی حالت

هَذِهِ + الْكُتُبُ + ل + مَعْلَمِينَ + ي  
مبتدا + بدل + ل حرف جر + اسم مجرور و هو مضاف + ياء متکلم مضاف إليه

لِمَعْلَمِينَ + ي ← لِمَعْلَمِي ← لِمَعْلَمِي

مَعْلَمِينَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ -Noon of مَعْلَمِينَ is dropped because of Idaafat.

یہاں دو یاء جمع ہو گئی پہلی ساکن اور دوسری متحرک دونوں کا ادغام ہو گیا۔

- Two Ya occur together. The first being Saakin and second Mutahrik, both are merged together.

یاء متکلم سے ما قبل پہلے ہی کسرة ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ -Kasrah is already there preceding Ya Mutakallim, so there won't be any change.

مَعْلَمِينَ حرف جر لام کی وجہ سے مجرور ہے۔ -Because of Herf Jer Laam, it is Majroor.

مَعْلَمِي: اسم مجرور و هو مضاف **علامت جرّه الياء** جر کی نشانی "ياء" لفظی۔ -Analysis: مَعْلَمِي Mudaaf, sign of Jer is "Ya" Lafzi.